

10 اپریل 2018

ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں برامپٹن کی شہرت دنیا کے ایک صفِ اول کے پاور ہاؤس کے طور پر ابھر رہی ہے

پائیدار نقل و حمل کے حوالے سے یورپ کی قائدانہ حیثیت کی حامل کمپنی شہر میں ہائی ٹیک اسمبلی سہولت گاہ لا رہی ہے

برامپٹن، آن - برامپٹن کے دنیا کے صفِ اول کے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ہونے والا تازہ ترین اضافہ، شہر میں ملازمتیں اور ٹیکنالوجی لے کر آیا ہے اور مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی رفتار میں خاطر خواہ اضافے کا سبب بنا ہے۔

آج میئر لنڈا جیفری نے عزت مآب جناب اسٹیون ڈی ڈوکا (منسٹر آف اکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ گروتھ) سے ایک ملاقات کی ہے اور لائیٹ ریل ویپکلز (LRVs) اور دیگر متعلقہ پرزہ جات کے لیے آسٹم کمپنی کی نئی اسمبلی سہولت گاہ کے قیام کا اعلان کیا ہے۔

مئی 2017 میں، صوبے نے گریٹر ٹورانٹو اینڈ ہیملٹن ایریا (GTHA) لائیٹ ریل ٹرانزٹ (LRT) پروجیکٹس کے لیے آسٹم کے ساتھ 61 گاڑیوں کی فراہمی کے لیے \$528 ملین ڈالر کے ایک معاہدے کا اعلان کیا تھا، جس میں 44 اضافی گاڑیوں کے حصول کا آپشن بھی شامل تھا۔ اس قابل ذکر سرمایہ کاری کی وجہ سے نئی سہولت گاہ میں 100 اور 120 کے درمیان کل وقتی ملازمتیں پیدا ہوں گی جبکہ برامپٹن کی اعلیٰ مہارتوں کی حامل افرادی قوت کو زیادہ ادائیگی کی حامل ملازمتوں کے حصول کا موقع بھی میسر آئے گا۔ اس کی وجہ سے پورے پیل اور GTHA میں 400 اور 500 کے درمیان اس سے متعلقہ ضمنی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔

آسٹم کے ساتھ سٹی کے افسران کی پہلی ملاقات اکتوبر 2017 میں ہوئی تھی اور انہوں نے کلینٹ سروس کے لیے اپنے مربوط تصوّر کا اظہار کیا تھا اور میونسپل سروسز میں کاروباری حلقوں کے لیے ایک ذریعہ فراہم کرنے کا عندیہ دیا تھا۔

برامپٹن کے معاشی ذرائع کا 30 فیصد سے زیادہ حصہ ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے پر منحصر ہے۔ ایک کثیر جہتی معیشت کے ساتھ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بامہارت لیبر رکھتے ہوئے اور ملک کی ایک اہم حیثیت کا حامل برامپٹن کا ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کا شعبہ دنیا کا صفِ اول کا پیداواری پاور ہاؤس مانا جاتا ہے، کیونکہ ملازمتوں کی فراہمی کے حوالے سے یہ شہر کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، جو برامپٹن کی کل افرادی قوت کے تقریباً ایک چوتھائی حصہ کو ملازمتیں فراہم کرتی ہے۔

پائیدار حرکت پذیری کے فروغ کنندہ کے طور پر، آسٹم کمپنی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سسٹمز، آلات اور سروسز کو فروغ دیتی ہے اور انہیں مارکیٹ کرتی ہے۔ آسٹم کا ہیڈکوارٹر فرانس میں ہے اور اس وقت یہ 60 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے اور اس کے ملازمین کی تعداد 32,800 افراد پر مشتمل ہے۔

کلیدی حقائق:

برامپٹن کا ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کا شعبہ، درج ذیل حقائق کے ساتھ برامپٹن میں ملازمتوں کا سب سے بڑا فراہم کنندہ ہے:

- تقریباً 900 کمپنیاں جن میں آٹوموٹیو، پلاسٹک، فیبریکٹیڈ میٹل اور دیگر ذیلی شعبے شامل ہیں
- 35,000 سے زیادہ ملازمین ہیں
- ہمارے قومی GDP میں اندازاً \$4 بلین کا حصہ ڈالتا ہے

اقتباسات:

"ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبے میں عالمی سطح پر قیادتی حیثیت کے حصول کے لیے برامپٹن درست سمت میں گامزن ہے۔ ہمارے پاس ایک انتہائی بامہارت اور پیشہ وارانہ طور پر ماہر افرادی قوت موجود ہے اور ہماری کاروباری کمیونٹی میں آسٹم کے اضافے سے ہماری مقامی افرادی قوت کو اپنے ہی شہر میں خدمات پیش کرنے کا مزید ایک موقع میسر آئے گا۔"

میئر لنڈا جیفری

"آلسٹم کی طرح کی عالمگیر کمیٹیوں کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاریوں سے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ہمارے شہر کی شہرت میں ایک عالمی حصہ دار کے طور پر اضافہ ہو گا۔ اس کی وجہ سے زیادہ تنخواہ والی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور مستقبل میں برامپٹن میں سرمایہ کاری کے امکانات میں بھی اضافہ ہو گا۔"

- جیف بومین، چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی

"ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نئے کاروباروں کی رغبت سٹی آف برامپٹن کی بڑھوتی میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس سہولت گاہ کو برامپٹن میں لانے کی ہماری مشترکہ کاوشوں میں، آلسٹم کے افسران کی پیشہ وارانہ سوچ اور خلوص کے لیے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آلسٹم کے ساتھ کام کرنے میں سٹی کے کئی ڈیپارٹمنٹس نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ہماری باہم مربوط کوششوں کی وجہ سے ہی ہم اتنی تیزی اور مؤثر طریقے سے آگے بڑھنے کے قابل ہوئے ہیں۔"

- باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتی، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](https://www.brampton.ca) اور [فیس بک](https://www.brampton.ca)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654